



## سوال

(554) عورت کے لیے جنت کی نعمتیں

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اکثر خواتین دریافت کرتی ہیں کہ مردوں کو جنت میں حوریں دی جائیں گی لیکن عورتوں کو کیلے گا؟ اس کے متعلق وضاحت کر دیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

۱۔ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اہل جنت کے متعلق فرمایا ہے:

وَفِيهَا نَسْتَمْتِنُ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا تَخْلَدُونَ [1]

”وہاں جو چاہے گا اور آنکھوں کو لچھالے گا موجود ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔“

نیز فرمایا:

وَلَكُمْ فِيهَا نَسْتَمْتِنُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۚ انزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَجِيمٍ [2]

”وہاں جس چیز کے لیے تمہارا بھی چاہے گا اور تم جو بھی چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، اسے بخشنے والے مہربان کی طرف سے میزبانی ہوگی۔“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [3]

”کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پوشیدہ کر رکھا ہے۔“

یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ انسانی نفوس سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ شادی ہے، اس بنا پر جنت میں مردوں اور عورتوں کی اس خواہش کا بھرپور انتظام ہوگا، مردوں کو دنیاوی نیک بیویوں کے علاوہ جنت کی حوریں بھی عطا کی جائیں گی اور عورتوں کو کامل رجولیت کے حامل شوہر ملیں گے جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ ان کی جوانی ہمیشہ

